

برائے فوری اجراء

سٹی آف برامپٹن کو اس سال 8,000 درخت لگانے کے لیے گورنمنٹ آف کینیڈا کی جانب سے \$1.2M کی سرمایہ کاری موصول ہو گی

برامپٹن، آن (4 اگست 2021) – آج، میئر پیٹرک براؤن، برامپٹن سٹی کونسلرز، اور منسٹر آف انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے پارلیمانی سیکریٹری اور برامپٹن ایسٹ کے رکن پارلیمنٹ جناب منیندر سدھو نے منسٹر آف نیچرل ریسورسز جناب سیمس اوریگان جونیر کی جانب سے رواں سال برامپٹن میں تقریباً 8000 درختوں کو پروان چڑھانے کے لیے \$1,280,000 کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔

اس سے حکومت کینیڈا کی جانب سے اگلے 10 سال کے دوران دو ارب درخت لگانے کے منصوبے اور سٹی آف برامپٹن کی جانب سے 2040 تک دس لاکھ درخت لگانے کے وژن کو تقویت پہنچے گی۔

گورنمنٹ آف کینیڈا کی جانب سے فراہم کردہ مالی معاونت برامپٹن کے شہری علاقوں میں کی جانے والی شجرکاری میں اہم کردار ادا کرے گی۔ سٹی ان درختوں کو قدرتی مقامات، سڑکوں کے کناروں، پارکوں میں ہموار سطح کے درختوں کے طور پر، بلیورڈز کے اندر اور کمیونٹی پلانٹنگ میں لگانے گا۔ برامپٹن مینشجرکاری کا پروگرام اگلے 50 سال کے دوران 35,500 ٹن گرین ہاؤس گیس (GHG) کو تلف کرے گا۔

ایک گرین سٹی ہونے کے طور پر، برامپٹن اپنے شہری جنگلات میں اضافہ کرنے کے لیے پرعزم ہے، جو دوام اور ماحولیاتی بقاء کی اس کی کاوشوں کا ایک حصہ ہے۔ 2040 تک دس لاکھ درخت لگانا برامپٹن کے [گرو گرین انوائرنمنٹل ماسٹر پلان \(EMP\)](#)، [ارین فاریسٹ منیجمنٹ پلان \(UFMP\)](#) اور [کمیونٹی انرجی اینڈ امشنز ریڈکشن پلان \(CEERP\)](#) کا ایک حصہ ہے۔

برامپٹن سٹی کونسل نے ستمبر کو برامپٹن ٹری منٹھ کے طور پر مختص کر دیا ہے! یہ سالانہ موقع درختوں کی اہمیت کے بارے میں بیداری پیدا کرے گا، برامپٹن کے شہری جنگلات کے تحفظ اور اس میں توسیع کے حوالے سے سٹی اور کمیونٹی کی کاوشوں اور کامیابیوں کی خوشیاں منائے گا، شہریوں کی وابستگی میں اضافہ کرے گا، صحت مندانہ اور اصلی آب و ہوا پر مبنی کمیونٹیاں پیدا کرے گا، ماحولیاتی بقاء کی ذمہ داریوں کے احساس کو فروغ دے گا اور شہر کے دس لاکھ درختوں کے ہدف کو حاصل کرنے میں مدد فراہم کرے گا۔ تفصیلات بہت جلد www.brampton.ca/trees پر دستیاب ہوں گی۔

لنکس

• [پلانٹنگ ٹریز ان برامپٹن ایز یارٹ آف ٹو بلین ٹریز](#)

اقتباسات

"برامپٹن ایک ماحول دوست شہر ہے اور ہم اپنے درختوں، پودوں اور دیگر سرسبز مقامات کو بچانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہمارے شہری جنگلات ہماری کمیونٹی کا ایک جزو لازم ہیں اور میں اس مالی امداد کا خیرمقدم کرتا ہوں جس سے 2040 تک برامپٹن میں دس لاکھ درخت لگانے کے ہمارے مقصد کے حصول میں مدد ملے گی اور اگلے 10 سال کے دوران کینیڈا کی حکومت کے دو ارب درخت لگانے کے منصوبے کو تقویت پہنچے گی۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن کے شہری جنگلات میں کینیڈا کی حکومت کی جانب سے دی جانے والی مالی امداد، ہماری بقاء اور آب و ہوا کے اہداف کے حصول میں براہ راست مفید ثابت ہو گی۔ یہ یقینی بنانے کے لیے ہمیں ابھی بہت کام کرنا ہے کہ برامپٹن ایک ماحول دوست شہر بن جائے اور یہ شجرکاری ہماری کمیونٹی میں ایک واضح فرق پیدا کرے گی۔"

- رووینا سیٹھوس، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن میں سرمایہ کاری لانے کے لیے سٹی کا عملہ پرعزم ہے۔ ہم گورنمنٹ آف کینیڈا کی جانب سے ہمارے شہر میں لائی جانے والی اس سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم اپنے اسٹیک ہولڈرز سے مل کر ایک سرسبز و شاداب مستقبل کی تعمیر کے لیے پرعزم ہیں۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایگزیکٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

"پورے کینیڈا میں درخت لگانے سے، بشمول یہاں برامپٹن میں، ہمیں اپنے 2030 تک کے آب و ہوا کے اہداف کے حصول اور 2050 تک مضر صحت گیسوں کا خالص صفر اخراج حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ دو ارب درختوں لگانے کے اس اقدام سے برامپٹن کے رہائشیوں کو زیادہ سایہ کے لیے صاف ہوا اور وسیع جنگلات کی چھتری میسر آنے گی اور اس کے علاوہ اس شعبے میں ملازمتیں بھی پیدا ہوں گی۔ میں اس سرمایہ کاری کے لیے انتہائی پرجوش ہوں، کیونکہ اس نہ صرف موجودہ نسل بلکہ آنے والی نسلوں پر بھی خوشگوار اثرات مرتب ہوں گے!"

- مینڈر سیدھو، منسٹر آف انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے پارلیمانی سیکریٹری اور برامپٹن ایسٹ کی جانب سے رکن پارلیمنٹ

"دو ارب درخت لگانا ماحولیاتی بقاء کے لیے ایک انتہائی اہم عملی منصوبہ ہے۔ اس منصوبے کی وجہ سے اس شعبے سے متعلق ہزاروں کی تعداد میں اچھی ملازمتیں بھی پیدا ہوں گی۔ ہم ملک بھر میں اس طرح کے شجر کاری کے منصوبے شروع کر رہے ہیں۔ شجر کاری سے ہم مضر صحت گیسوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔"

- جناب سیمس اوریگان جونیر، منسٹر آف نیچرل ریسورسز

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹس

پرابجوت کینتھ

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca

ایان کیمرون

سینئر کمیونیکیشن ایگزیکٹو

افس آف دی منسٹر آف نیچرل ریسورسز

613-447-3488 | Ian.Cameron@canada.ca

میڈیا ریلیشنز

نیچرل ریسورسز کینیڈا

اوٹاوا

343-292-6100 | NRCan.media.RNCan@canada.ca